

اذیت کے شکار/گواہ کی مدد کا پروگرام
(Victim/Witness Assistance Program)

اذیت کے شکار/گواہ کی مدد کا پروگرام (Victim/Witness Assistance Program) کیا ہے؟
اگر آپ کسی اذیت ناک جرم میں اذیت کا شکار یا گواہ ہو گئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ یہ مشکل اور الجھن میں ڈالنے والا تجربہ ہو گا۔ آپ کو فوجداری عدالت کے نظام کے بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے اور آپ سے کیا توقع کی جائے گی۔

اذیت کے شکار/گواہ کی مدد کا پروگرام (Victim/Witness Assistance Program) آپ کی مدد کے لئے یہاں ہے۔ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کے معاملے کی نوعیت سے خاص اور ضروریات کے مطابق ہے۔ ہماری خدمات اُس وقت شروع ہو جاتی ہیں جب ایک مرتبہ پولیس الزامات لگا چکتی ہے اور عدالتی معاملہ کے تصفیہ تک جاری رہتی ہیں

کون مدد حاصل کر سکتا ہے؟

اذیت ناک جرائم، جیسے کہ گھریلو تشدد، بچوں سے زیادتی، جنسی زیادتی، بزرگوں سے زیادتی، قتل اور نفرت کے جرائم کے غیر محفوظ اذیت کے شکار اور گواہان کو فوقیت کی بنا پر خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی مدد کی پیشکش کرتے ہیں:

- اذیت کے شکار جن کی خصوصی ضروریات ہوں
- ایسے خاندانوں کی جو مقتول کی وجہ سے مظلوم ہوں
- ایسے جان لیوا حادثات جو قابل تعزیر جرم کا باعث ہوں، ان مظلومین کے خاندانوں کے لئے بچوں کے لئے بالحاظ عمر، معلومات و خدمات موجود ہیں۔

میں کیسے مدد حاصل کروں؟

جب الزامات عائد کر دئے جاتے ہیں تو پولیس یا کراؤن اٹارنی ایسے مظلومین اور گواہان کو مدد کے لئے ایسے پروگرام کی طرف بھجواتے ہیں۔ اگر آپ ایسے اذیت ناک جرم کے مظلوم ہیں تو آپ اپنے طور پر بھی اس پروگرام تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کال کر سکتے ہیں یا کمیونٹی میں کوئی بھی آپ کے بدلے کال کر سکتا / سکتی ہے۔ عملہ جس قدر جلد ممکن ہو آپ کو مدد فراہم کرے اور کسی بھی حفاظتی خدشات سے نمٹے۔

اس پر کتنی لاگت آتی ہے؟

اونٹاریو بھر میں یہ خدمات مفت ہیں۔

کس قسم کی امداد موجود ہے؟

اذیت کے شکار/گواہ کی مدد کا پروگرام (Victim/Witness Assistance Program) یہ کچھ کر سکتا ہے:

- فوجداری عدالتی نظام، عدالت کے طریق کار اور آپ کے عدالتی کردار سے متعلق آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے
- آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دینا کہ آپ کو ہر عدالتی تاریخ پر کیا امید کرنی چاہئے اور آپ کو عدالتی پیشی کے لئے تیار کرنا

- آپ کو عدالتی کاغذات فراہم کرنا جیسے کہ ضمانتی شرائط اور آزمائشی احکامات
- آپ کی نمائندگی میں آپ کے کیس کے کراؤں اٹارنی یا مختار پولیس افسر سے رابطہ قائم کرنا
- منجملہ عدالتی کاروائی کے دوران جاری رہنے والی جذباتی مدد فراہم کرنا
- بعض دیگر خدمات، جن کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مشورہ اور حفاظتی منصوبہ بندی کے لئے آپ کو کمیونٹی کے اداروں کی طرف بھجوانا
- خانگی تشدد کے معاملات یا کوئی اور ضرورت کے پورا کرنے کے لئے زبان بولنے کے ترجمان کا انتظام کرنا
- آپ کو مظلومیت کے اثرات (Victim Impact Statement) والے بیان کو سمجھنے اور اسے مکمل کرنے میں مدد دینا

پروگرام یہ کام نہیں کر سکتا :

- آپ کی گواہی لے یا اس کے بارے میں بحث کرے
- الزامات سے بری کرے
- بچے کی نگہداشت کا انتظام یا فراہم کرے
- عدالت میں آمد و رفت کے لئے ذریعہ نقل و حمل فراہم کرے

میں پروگرام سے کیسے رابطہ کروں ؟

تمام 54 ضلعی عدالتوں میں اذیت کے شکار/گواہ کی مدد کا پروگرام (Victim/Witness Assistance Program) وزارت اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے قریبی دفتر کو تلاش کرنے کے لئے وکٹم سپورٹ لائن پر کال کریں:

ٹول فری 1-888-579-2888 یا گریٹر ٹورانٹو ایریا میں اس نمبر 416-314-2447 پر کال کریں یا ملاحظہ کریں

www.ontario.ca/victimservices